



توجب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا

Quran With Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

سورة النَّازِعَاتِ

اردو ترجمہ Urdu Translation

[Click This Bar to Listen Audio](#)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1)

ان (فرشتوں) کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں

وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2)

اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں

وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3)

اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں

فَالسَّابِقَاتِ سَبَقًا (4)

پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5)

پھر (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتے ہیں

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6)

(کہ وہ دن آکر رہے گا) جس دن زمین کو بھونچال آئے گا

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ (7)

پھر اس کے پیچھے اور (بھونچال) آئے گا

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8)

اس دن (لوگوں) کے دل خائف ہو رہے ہوں گے

أَبْصَارُهُمْ خَائِفَةٌ (9)

اور آنکھیں جھکی ہوئی

يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10)

(کافر) کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟

أِذَا كُنَّا عِظَامًا مَّخِرَةً (11)

بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے (تو پھر زندہ کیے جائیں گے)

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12)

کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو (موجب) زیاں ہے

فَاتَّمَاهِي زَجْرَةً وَاحِدَةً (13)

وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14)

اس وقت وہ (سب) میدان (حشر) میں آجمع ہوں گے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15)

بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16)

جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان (یعنی) طویٰ میں پکارا

أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17)

(اور حکم دیا) کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزَّيَّ (18)

اور (اس سے) کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے

وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19)

اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف (پیدا) ہو

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (20)

غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔

فَكَذَّبَ وَعَصَى (21)

اس نے جھٹلایا اور نہ مانا

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22)

پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا

فَحَشَرَ فَنَادَى (23)

اور (لوگوں) کو اکھٹا کیا اور پکارا

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24)

کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (25)

تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت (دونوں) کے عذاب میں پکڑ لیا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى (26)

جو شخص (خدا سے) ڈر رکھتا ہے اس کیلئے اس (قصے) میں عبرت ہے

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ^ج

بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟

بَنَاهَا (27)

اسی نے اس کو بنایا

رَفَعَ سَمُوكَهَا فَسَوَّاهَا (28)

اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29)

اور اسی نے رات کو تاریک بنایا اور (دن کو) دھوپ نکالی

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)

اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31)

اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارا اگایا

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32)

اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا

مَتَاءً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33)

یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے (کیا)

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34)

تو جب بڑی آفت آئے گی

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35)

اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36)

اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37)

تو جس نے سرکشی کی

وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (38)

اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39)

اس کا ٹھکانا دوزخ ہے

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40)

اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور دل کو خواہشوں سے روکتا رہا

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41)

اس کا ٹھکانا بہشت ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42)

(اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! لوگ)

تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟

فِيهَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43)

سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44)

اس کا منتہا (یعنی واقع ہونے کا وقت) تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَحْشَاهَا (45)

جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46)

جب وہ اس کو دیکھیں گے (تو ایسا خیال کریں گے) کہ گویا (دنیا میں صرف) ایک شام یا صبح رہے تھے

